



日本の歌を歌ったことがありますか

کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟

سبق 20

ロドリゴ
رودریگو

アンナさんは日本の歌を歌ったことが
ありますか。

اٹا، کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟

ANNA-SAN WA NIHON NO UTA
O UTATTA KOTO GA ARIMASU
KA.

アンナ
اٹا

はい、あります。
HAI, ARIMASU.

جی، میں نے گائے ہیں۔

さくら
ساکورا

どんな曲が得意？
DONNA KYOKU GA TOKUI?

آپ کس قسم کے گیت اچھی طرح گالیتی ہیں؟

アンナ
اٹا

アニメの曲です。
ANIME NO KYOKU DESU.

انیمیشن کارٹونوں کی دھنیں۔



گرامر کے نکات

ARIMASU ①

◆ سبق نمبر 7 میں ARIMASU کا مطلب تھا ”کسی چیز کی موجودگی“۔ سبق نمبر 9 میں اس کا مطلب تھا ”ایک ایونٹ منعقد ہوا“۔

اس سبق میں ARIMASU کا ایک مطلب یہ ہے کہ ”کسی شے کا ملکیت میں ہونا“ جیسا کہ تجربات، وقت یا مواقع۔

(___ کا تجربہ ہونا)

KOTO GA ARIMASU +

② TA شکل کے فعل

◆ اگر TA شکل کے فعل اور KOTO GA ARIMASU کو ملائیں تو ہم اس کام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی ہمارا تجربہ۔

مثال کے طور پر: WATASHI WA SHINJUKU NI ITTA KOTO GA ARIMASU. (میں شینجو کو آچکا ہوں۔)

↳ IKIMASU (جانا)

... ㊦ ... ㊧ ... ㊨ ... ㊩ ... ㊪ ... ㊫ ... ㊬ ... ㊭ ... ㊮ ... ㊯ ... ㊰ ... ㊱ ... ㊲ ... ㊳ ... ㊴ ... ㊵ ... ㊶ ... ㊷ ... ㊸ ... ㊹ ... ㊺ ... ㊻ ... ㊼ ... ㊽ ... ㊾ ... ㊿ ...

GATAN
GOTON
گاتان گوتون



یہ ٹرین چلنے کی آواز ہے۔

KANKANKAN
کان کان کان



یہ کراسنگ کی آواز ہے۔

صوتی الفاظ

